


በኩረት በተጀመሪያ
ቁጥር ፪
በሸጻ ሰም
Catherine Groenewald
Violet Otiemo



በኩረት በተጀመሪያ



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>




በሸጻ ሰም
Catherine Groenewald
Violet Otiemo

በኩረት በተጀመሪያ

globalstorybooks.net

Global Storybooks






أُوڈونگو اور ایپیو شہر میں اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔
انہیں چھٹیوں کا انتظار تھا۔ نا صرف اس لیے کہ سکول بند
ہو بلکہ وہ اپنی دادی کے گھر جا سکیں۔ وہ ایک بڑی ندی
کے کنارے مچھلیاں پکڑی جانے والی گاؤں میں رہتی تھیں۔

ጠና ስምም ታይት ይ-

አይ- 60 ንዑስ የጊዜ መሬት የዚህ አካል ተደርጓል
የጊዜ መሬት የዚህ አካል ተደርጓል
አካል ተደርጓል የዚህ አካል ተደርጓል
የዚህ አካል ተደርጓል





اگلی صبح جلد ہی وہ اپنے ابو کی گاڑی میں گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ پہڑوں، جنگلی جانوروں اور چائے کے پودوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے گاڑیاں گنیں اور گانے گائے۔






اوڈونگو اور ایپیبو سکول واپس گئے، انہوں اپنے دوستوں کو گاؤں کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ کچھ بچوں نے محسوس کیا کہ شہر کی زندگی بہتر ہے لیکن ان میں سے تقریباً سب نے اس بات کو ملتا کہ اوڈونگو اور ایپیبو کی دادی بہت شاندار ہیں!

।ରାତିକା-


।ନେମଣିରେ ରାତିକାରେ ହେଲା ହେଲା ହେଲା

ରାତିକାରେ ହେଲା ହେଲା ହେଲା ।






والد نے اُڈونگو اور ایپیو کو اٹھایا جب وہ گاؤں پہنچ گئے۔
وہاں انہیں نیار کنیاڑا، اُن کی دادی درخت کے نیچے چٹائی
پر آرام کرتی ہوئی ملیں۔ نیر کنیاڑا لا مطلب لو زیان میں
کنیاڑا کے لوگوں کی بیٹھی ہے۔ وہ ایک مضبوط اور
خوبصورت عورت تھی۔



جب اُن کے ابو انہیں لینے آئے وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔
بچوں نے نیار کنیاڑا کی منت کی کہ وہ اُن کے سلاتھ شہر
چلیں۔ میں شہر کے لیے بہت بوڑھی ہوں اُس نے مسکرا کر
کلا۔ میں تمہرا دوبارہ گاؤں آئے کے لیے انتظار کروں گی۔


የኢትዮጵያ ተናሬ


አንድ ማኅበ ከዚህ የደንብናው ተናሬ እና አገልግሎት ማኅበ
በመጀመሪያ መረጃ እንደሚከተሉ ተናሬ ተስፋስ ተናሬ
አገልግሎት መረጃ እና ተናሬ ተናሬ ተስፋስ ተናሬ
አገልግሎት መረጃ እና ተናሬ ተናሬ ተስፋስ ተናሬ




የኢትዮጵያ

የደንብናው ተናሬ ስርጓሜ ተናሬ ተናሬ
በመጀመሪያ መረጃ እንደሚከተሉ ተናሬ ተስፋስ
አገልግሎት መረጃ እና ተናሬ ተናሬ ተስፋስ
አገልግሎት መረጃ እና ተናሬ ተናሬ ተስፋስ





تحفے کھولنے کے بعد نیار کنیاڑا نے اپنے پوئے اور پوتی کو روایتی انداز میں دُعا دی۔





دن کے ختم ہونے پر انہوں نے مل کر چائے پی۔ انہوں نے کلائے ہوئے پیسوان کو گنے میں اپنی دادی کی مدد کی۔

ମନେ କାହିଁଦିଲା
ବୁଝିଲା କାହିଁଦିଲା




କାହିଁଦିଲା କାହିଁଦିଲା କାହିଁଦିଲା
କାହିଁଦିଲା କାହିଁଦିଲା କାହିଁଦିଲା କାହିଁଦିଲା
କାହିଁଦିଲା କାହିଁଦିଲା କାହିଁଦିଲା କାହିଁଦିଲା







وہ درخت پر چڑھے، اور ندی میں پانی اڑایا۔




ایک صبح اوڈونگو اپنی دادی کے ساتھ گائیں کو چرانے لے گیا۔ وہ بمسلیوں کے باعچے میں بلاگ گئیں۔ کسلن اوڈونگو سے لافی غصہ تھا۔ اُس نے اُسے گائیں کے فصلیں کلانے پر بہت دھمکایا۔ اُس دن کے بعد اُس نے یقینی بنایا کہ گائیں دوبارہ کسی مصبیت میں نہ پہنسیں۔


ብኩም እናም ታስፋ የኩም እናም ምር-
የኩም ምርጥኩም ይኩም ምርጥኩም ያ መሆኑ ተ ማያ-
ቻ ተ የኩም የኩም የኩም የኩም የኩም የኩም

ሁ ተ የኩም የኩም የኩም የኩም
ሁ ተ የኩም የኩም የኩም የኩም





اگلے دن بچوں کے ابو بچوں کو نیار کنیاڑا کے پاس چھوڑ
کر شہر کے لیے واپس آگئے۔



اوڈونگو اور ایپیو نے گھر کے کاموں میں اپنی دادی کی
مدد کی۔ وہ پانی لاتے، آگ کے لیے لکڑی لاتے۔ انہوں نے
انڈے اور چوزے اکٹھے کیے اور باغیچے سے سبزہ چنا۔